




مچھلی کی کہانی

1



نو پتا جماعت I



سمندر کے اندر گھرائی میں
خوبصورت رنگین مچھلی کو دیکھو
خاموشی سے تیرتی ہوئی

تین مصرعوں کی یہ خاص نظم ہائیکو کہلاتی ہے۔ کائنات
کے بارے میں اس طرح کی نظمیں جاپان میں بہت
مشہور ہیں۔ یہاں ایک اور ہائیکو نظم ہے۔

ایک جھیل جو خاموش ، ہموار، رکھی ہوئی ہے
ایک مچھلی اُچھلتی ہے اور واپس ہوتی ہے
لہریں جھیل کو ہلا دیتی ہیں

کیا آپ نے مچھلی کے بارے میں کوئی نظم پڑھی ہے؟
یہاں بچوں کے ذریعے بنائی گئی کچھ ڈرائنگ (تصاویر) ہیں۔

جب آپ مچھلیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ
کے دماغ میں کون کون سی شکلیں آتی ہیں؟

* ایک مربع اور ایک مثلث کا استعمال کر کے
مچھلی بنانے کی کوشش کیجیے۔



اپنے آس پاس موجود کپڑے پر، پینٹنگ میں اور چٹائی وغیرہ پر مچھلیوں کے ڈیزائن کو دیکھیے۔

'مین (Meen)' کا مطلب ہے ایک مچھلی اور 'مینا کشی' ایک لڑکی ہے جس کی آنکھیں مچھلی کی طرح ہیں۔ کیا آپ کسی اور کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں؟

+ ایک چہرہ بنائیے جس کی آنکھیں مچھلی کی طرح ہوں۔

مچھلیاں الگ الگ جسامت کی ہو سکتی ہیں۔ سب سے چھوٹی مچھلی کی لمبائی تقریباً ایک سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سب سے بڑی مچھلی کی لمبائی کیا ہوگی؟

+ آپ کی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی سے کتنے گنا لمبی ہے؟



سب سے بڑی مچھلی وہیل شارک (Whale Shark) ہے۔ حقیقت میں یہ وہیل نہیں ہے بلکہ ایک بڑی مچھلی ہے۔ وہیل بڑی مچھلی سے مختلف ہوتی ہے۔ وہیل ہماری طرح ہی اپنی ناک سے سانس لیتی ہے۔ لیکن مچھلی کے ناک نہیں ہوتی اور وہ پانی کے اندر سانس لیتی ہے، نہ کہ ہوا میں۔ وہیل بچے پیدا کرتی ہے لیکن مچھلی انڈے دیتی ہے۔ وہیل شارک مچھلی بڑی اور خطرناک معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتی۔


ایک وہیل شارک 18 میٹر لمبی تھی۔ ذرا اس کی لمبائی کے بارے میں سوچیے۔ آپ کی لمبائی کے تقریباً 12 بچوں کے ایک کے اوپر ایک کھڑے ہونے سے حاصل ہونے والی لمبائی! اور اندازہ لگائیے کہ اس کا وزن کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ 12 لوگوں کا وزن کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ! اس کا وزن لگ بھگ 16000 کلوگرام تھا!



- * آپ کا وزن کتنے کلوگرام ہوگا؟ _____
- * اس لیے آپ جیسے 12 بچوں کا وزن ایک ساتھ کیا جائے تو کل وزن تقریباً _____ کلوگرام ہوگا۔
- * آپ جیسے 12 بچوں کا وزن ایک ساتھ جوڑا جائے تو وہیل شارک کا وزن اس سے کتنا زیادہ ہوگا؟ _____


مچھلی کی ڈم

وہیل اور مچھلی کے درمیان فرق محسوس کرنے کے لیے ان کی ڈم (پونچھ) پر غور سے دیکھیے۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی کی ڈم اس کے جسم کے ساتھ سیدھی کھڑی رہتی ہے، جب کہ وہیل کی ڈم تقریباً دو ٹانگوں جیسی دکھائی دیتی ہے۔ کیا آپ تصویر میں مچھلی کی نشان دہی کر سکتے ہیں؟



مچھلیوں کے "اسکول"!

مچھلیاں سمندر میں بڑا گروپ بنا کر ایک ساتھ تیرنا پسند کرتی ہیں جسے مچھلیوں کا "اسکول" کہتے ہیں۔ اپنے اسکول میں وہ اپنے آپ کو بڑی مچھلیوں سے محفوظ سمجھتی ہیں۔
(کیا آپ اپنے اسکول میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں؟)




یہ ایک تصوراتی مرکزی خیال کا باب ہے جو کہ بچوں کو مچھلیوں کی دنیا اور مچھلوں سے ایک مربوط طریقے سے روشناس کراتا ہے۔ ریاضیاتی تصور جیسے شکلیں، اندازہ، بڑے اعداد کی سمجھ، آسان عمل، درکار قرض وغیرہ کو حقیقی زندگی سے جوڑتا ہے کہ یہ کس طرح ایک ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ کچھ خیالات جو پہلے پڑھ چکے ہیں انہیں کچھ نئے طریقے سے دہرایا جائے۔



بڑی مچھلی کو ڈرانے کے لیے کچھ چھوٹی مچھلیاں بہت سارا پانی پی لیتی ہیں، پھول جاتی ہیں اور بڑی لگنے لگتی ہیں!



* جنسی نے مچھلیوں کی تصاویر بنانے کے لیے ان شکلوں کا استعمال کیا۔ اب آپ بھی نیچے دکھائے گئے مختلف سمندری جانوروں کی تصاویر بنانے کے لیے کچھ شکلوں کا استعمال کیجیے۔



لوہسٹر



سمندری ارچن



لال اسٹیپر



اہل



طوطا مچھلی



سیپ



آکٹوپس



کٹل مچھلی



جھینگا



اسکوئیڈ



جیلی مچھلی



کیکڑا



سلور ہوم فریٹ

✽ ان میں سے کون سے سمندری جانور آپ پہلے دیکھ چکے ہیں؟

مچھوارے اپنی کشتیوں میں

آپ میں سے کتنے لوگوں نے سمندر دیکھا ہے؟ آپ نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اسے حقیقت میں دیکھا ہے یا کسی فلم میں؟ آپ کے خیال میں سمندر کتنا گہرا ہوگا؟ معلوم کیجیے۔

کیا آپ تیرنا جانتے ہیں؟ کیا آپ کو سمندر کی اونچی لہروں سے ڈر لگتا ہے؟

- * اپنی آنکھیں بند کیجیے اور سمندر کا تصور کیجیے جس میں اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں۔
- * آپ کے خیال میں لہریں کتنی اونچا اٹھ سکتی ہیں؟ _____



تصور کیجیے کہ مچھوارے اپنی کشتیوں میں ہیں، جو لہروں کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ وہ اپنا سفر اندھیرے ہی میں شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ سادہ کشتیوں پر جاتے ہیں جو کہ لکڑی کے لٹھوں کو باندھ کر بنائی گئی ہیں۔ اگر تیز ہواؤں اور اونچی لہروں کی وجہ سے سمندر غیر موافق ہو تو مچھواروں کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ککڑی کے لٹھوں سے بنی ناؤ

یہ لٹھوں سے بنی ہوئی کشتیاں بہت دور تک نہیں جاتیں۔ اگر ہوا مددگار ہوتی ہے تو یہ ایک گھنٹے میں تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہیں۔

* 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں انھیں کتنا وقت لگے گا؟

* اندازہ لگائیے کہ اگر آپ تیز چلیں تو ایک گھنٹے میں کتنی دور تک جاسکتے ہیں؟



ککڑی کے لٹھوں سے بنی ناؤ



مچھوارے ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں اور سورج کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کس طرف جانا ہے۔ ہم میں سے بہت سے تو کھو جائیں گے اور سمندر میں اپنا راستہ تلاش نہیں کر پائیں گے۔ یہاں آپ صرف پانی ہی پانی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں!

معلوم کیجیے

سورج کو دیکھیے اور معلوم کیجیے کہ وہ کس سمت سے نکلتا ہے؟

* آپ جہاں ہیں وہاں سے آپ اپنے مشرق میں کیا دلچسپ چیز دیکھتے ہیں؟

* اپنے مغرب میں سے دو چیزوں کے نام بتائیے؟

کیا کیچ ہے!



سمندر پر جا کر مچھوارے اس جگہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جہاں انہیں خوب مچھلیاں ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں وہ اپنے جالوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ انہیں جال میں مچھلی پھنسنے کا گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔

کتنی لمبی ایک تلوار مچھلی

* مختلف قسم کی کشتیوں پر غور کیجیے۔

کچھ کشتیوں میں موٹر لگے ہوتے ہیں اور وہ سمندر میں بہت دور تک جاتی ہیں۔ چونکہ وہ بہت زیادہ دور تک جاتی ہیں اس لیے وہ بہت زیادہ مچھلیاں پکڑ سکتی ہیں۔ یہ کشتیاں زیادہ تیز سفر کرتی ہیں تقریباً 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے۔

* ساڑھے تین گھنٹے میں موٹروالی کشتی کتنی دور جائے گی؟

* 85 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں انہیں کتنا وقت لگے گا؟




چھوڑا لی کشتی




موٹروالی کشتی



موٹروالی کشتی



بڑی مشین والی کشتی (ٹراولر)




لبی ڈم والی کشتی

لیکن اب مچھوارے بہت فکر مند ہیں کیوں کہ اب کاروبار میں کچھ بہت بڑی مشین والی کشتیاں (Trawlers) آگئی ہیں۔ وہ بہت دور تک جاتی ہیں اور اپنے بڑے جال سمندر میں گہرائی تک ڈالتی ہیں۔ اس طرح وہ بہت ساری مچھلیاں پکڑ لیتی ہیں اور سمندر کے کنارے بہت کم تعداد میں مچھلیاں رہ جاتی ہیں۔ ساتھ ہی وہ سمندر میں بہت دن تک رہتی ہیں۔

یہ بڑی مشین والی کشتیاں مچھلیوں کے چھوٹے بچوں کو بھی پکڑ لیتی ہیں جنہیں ابھی بڑا ہونا ہے۔ چھوٹی کشتیوں میں مچھوارے ہمیشہ چھوٹی مچھلیوں کو اپنے جالوں سے سمندر میں واپس جانے دیتے ہیں۔ وہ سائز کے اعتبار سے اس طرح کے جال منتخب کرتے ہیں جن سے صرف بڑی مچھلیاں ہی پکڑی جائیں۔





سیکڑوں برسوں سے مچھوارے سمندر اور اس کی مچھلیوں کی دیکھ بھال کرتے آئے ہیں اور صرف اتنی ہی مچھلیاں پکڑتے ہیں کہ اپنا پیٹ بھر سکیں اور کچھ بیچ سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ٹرالر (Trawler) اسی طرح روزانہ ہزاروں کلوگرام مچھلیاں پکڑیں گے تو سمندر میں ایک بھی مچھلی باقی نہیں بچے گی!

* مچھلیوں کو دریاؤں اور سمندروں میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر ایک خبر دینے والی رپورٹ تیار کیجیے۔

کون سی کشتی کتنا حاصل کرتی ہے؟

لکڑی کے لٹھوں سے بنی کشتی ایک بار میں تقریباً 20 کلوگرام مچھلی لاتی ہے۔ لیکن دوسرے قسم کی کشتیاں مچھلیوں کا بڑا ذخیرہ لاتی ہیں جیسا کہ جدول (Table) میں دیا گیا ہے۔ جدول میں ہر قسم کی کشتی کی رفتار دی گئی ہے۔ ایک گھنٹے میں ہر کشتی کتنا سفر طے کرتی ہے۔ جدول دیکھیے اور حساب لگائیے۔

- (a) ہر قسم کی کشتی سات مرتبہ میں کتنی مچھلیاں لائے گی؟
 (b) ایک موٹر والی کشتی چھ گھنٹے میں کتنی دور جا سکتی ہے؟
 (c) اگر ایک لمبی ڈم والی کشتی کو 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہو تو وہ کتنا وقت لے گی؟

کشتی کی قسم	ایک مرتبہ میں پکڑی گئی مچھلیوں کا وزن (کلوگرام میں)	کشتی کی رفتار (ایک گھنٹے میں یہ کتنی دوری طے کرتی ہے)
لٹھوں سے بنی کشتی	20	4 کلومیٹر فی گھنٹہ
لمبی ڈم والی کشتی	600	12 کلومیٹر فی گھنٹہ
موٹر والی کشتی	800	20 کلومیٹر فی گھنٹہ
مشین والی کشتی	6000	22 کلومیٹر فی گھنٹہ

کچھ بڑے، بڑے اعداد!

چوتھی جماعت میں ریاضی کا جادو کتاب میں آپ نے 'لاکھ' عدد کے بارے میں سنا ہوگا۔ جو ایک سو ہزار کے برابر ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں اینٹیں بنانے کے تقریباً ایک لاکھ بھٹے ہیں جہاں اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔

* آپ نے اور دوسری کن اشیا کو لاکھوں کی تعداد میں سنا ہے؟

* ایک ہزار عدد کو لکھیے۔ اب ایک سو ہزار لکھیے۔ اس طرح عدد ایک لاکھ میں کتنے صفر ہیں؟ آسان ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟

* ہمارے ملک میں تقریباً دو لاکھ کشتیاں ہیں۔ ان میں سے آدھی بغیر موٹر کی ہیں۔ جن کشتیوں میں موٹر ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ لکھیے۔

* موٹروالی کشتیوں میں تقریباً ایک چوتھائی بڑی مشین والی کشتیاں ہیں۔ مشین والی کشتیاں کتنے ہزار ہیں؟ آئیے اسے بغیر لکھے ہوئے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔

شاید ہمیں ان لوگوں کی تعداد جان کر تعجب ہو جن کی زندگی مچھلی سے جڑی ہے۔ کل ملا کر تقریباً ایک سو لاکھ مچھواریے ہیں۔ جو مچھلی پکڑتے ہیں، انہیں صاف کرتے اور بیچتے ہیں، جال اور کشتیاں بناتے ہیں اور ان کی مرمت وغیرہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بڑے عدد ایک سو لاکھ کے لیے بھی ایک نام ہے جو ایک کروڑ کہلاتا ہے۔

* آپ نے ایک کروڑ کے بارے میں کہاں سنا ہے؟ یہ عدد کس کے لیے استعمال ہوا تھا؟

* عدد ایک کروڑ لکھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سارے صفروں میں

گم مت ہو جانا!



مچھلی بازار

کیا آپ کبھی مچھلی بازار گئے ہیں؟ اگر گئے ہیں تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ شور اور بھیڑ بھاڑ والے علاقے کو 'مچھلی بازار' کیوں کہا جاتا ہے!

آج اس مچھلی بازار میں بہت بھیڑ ہے۔



بہت سی کشتیاں مچھلیوں کا بڑا ذخیرہ لاتی ہیں۔ مچھلی بیچنے والی عورتیں خریداروں کو چلا چلا کر ان کی قیمت بتا رہی ہیں۔

منی۔ ”یہاں آؤ! یہاں آؤ! سرڈاٹنس 40 روپیے فی کلو لے جاؤ۔“

گریسی۔ ”اس سے پہلے کبھی اتنی سستی نہیں تھی! تلوار مچھلی 60 روپیے فی کلو لے لو۔“

فلوراما جھیگا کو 150 روپیے فی کلو بیچتی ہے۔

کاروتھا اسکویڈ 50 روپیے فی کلو بیچتی ہے۔

دیکھو، فضاہ اس بڑی کنگ مچھلی کو بڑی مشکل سے لے جاسکتی ہے! وہ کہتی

ہے ”اس مچھلی کا وزن 8 کلوگرام ہے۔ میں پوری مچھلی کو 1200 روپیے میں

بیچوں گی۔“



مشق کا وقفہ

(1) فضاہ نے کنگ مچھلی کو کتنے روپیے فی کلوگرام بیچا ہے؟

(2) فلورامانے آج 10 کلوگرام جھیگا مچھلی بیچی ہے۔ اس کے لیے اسے کتنی رقم

حاصل ہوئی؟

(3) گریسی نے 6 کلوگرام تلوار مچھلی بیچی۔ منی نے اتنی ہی رقم کمائی۔ جتنی

گریسی نے کمائی۔ منی نے کتنے کلوگرام سرڈاٹنس مچھلی بیچی؟





4) بشیر کے پاس 100 روپے ہیں۔ وہ اسکوئیڈ پر ایک چوتھائی رقم خرچ کرتا ہے اور دوسری تین چوتھائی رقم جھیگا مچھلی پر خرچ کرتا ہے۔

a. اس نے کتنے کلوگرام اسکوئیڈ خریدا؟

b. اس نے کتنے کلوگرام جھیگا خریدا؟

اسے جلدی جلدی کہنے کی کوشش کیجیے!

یہاں ایک زبان کو گھمانے والا ہے۔ اسے تیزی سے دہرائیے! وہ سمندر کے کنارے گھونگے بیچتی ہے۔ اسے پورا بیچتے ہیں کہ وہ جو گھونگے بیچتی ہے بہت زیادہ دن تک نہیں رہیں گے۔

عورتوں کا 'مین کارڈ' بینک

مین کارڈ بینک کی میننگ ابھی ابھی شروع ہوئی ہے۔ فضا اس کی صدر ہے۔ مچھلی کا کاروبار کرنے والی بیس عورتوں نے اپنا بینک بنایا ہے۔ ہر ایک 25 روپے ماہانہ بچاتی ہے اور انھیں بینک میں جمع کرویتی ہے۔

* یہ گروپ ہر مہینے میں کتنا پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے؟

* دس سال میں کتنی رقم جمع ہو جائے گی؟

مشق کا وقفہ

گریسی کو ایک جال خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ جھانسی اور اس کی بہن لکڑی کے لٹھوں کی ایک کشتی خریدنا چاہتی ہیں۔ اس لیے وہ اپنے بینک سے قرض لیتی ہیں۔ وہ اسے مع سود واپس لوٹادیں گی۔

a) گریسی نے جال خریدنے کے لیے 4000 روپے قرض لیے۔ اس نے ایک سال تک ہر مہینے 345 روپے واپس کیے۔ اس نے بینک کو کتنی رقم واپس کی؟

(b) جھانسی اور اس کی بہن نے لکڑی کے لٹھوں سے بنی ایک کشتی خریدنے کے لیے 21,000 روپے قرض لیے۔ انھوں نے ایک سال میں کل 23,520 روپے واپس کیے۔ انھوں نے ہر مہینے کتنی رقم واپس کی؟

پہلے عورتیں مچھلی پکڑنے کے لیے کشتی پر نہیں جاتی تھیں۔ لیکن اب جھانسی اور دوسری عورتیں دن کے وقت کشتیوں پر جاتی ہیں۔ اب حالات بدل رہے ہیں اور ان کے بینک ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایک خاص بس کا انتظام ہے جو ان کی مچھلیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لے جاتی ہے۔



کیوں نہ ہم مچھلیاں سکھانے کی ایک نئی فیکٹری شروع کریں؟

مین کار بینک کی عورتیں مچھلی سکھانے والی ایک فیکٹری شروع کرنا چاہتی ہیں۔ پنجایت نے انھیں اس کے لیے کچھ زمین بھی مہیا کرادی ہے۔ انھوں نے کئی برسوں میں 74,000 روپے بچائے ہیں۔ انھوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ فیکٹری قائم کرنے کے لیے انھیں کتنی رقم کی ضرورت ہے۔

فضیلا ان خریدنے والی اشیاء کی فہرست تیار کرتی ہے جن کی کام شروع کرنے کے لیے انھیں ضرورت ہے۔ تمام اشیاء جوہ خریدنا چاہتی ہیں ان کی قیمت اور ان کی تعداد کے لیے جدول (Table) کو دیکھیے۔ کل قیمت معلوم کیجیے۔



اشیا	ہر ایک کی قیمت	اشیا کی تعداد	قیمت
تازے پانی کے لیے پورویل	3000 روپے	1	
مچھلی خشک کرنے کے لیے بانس کی الماری	2000 روپے	20	
سینٹ کا ٹینک	1000 روپے	4	
نرے اور چاقو	300 روپے	20	
ٹوکری	75 روپے	20	

فیئٹری شروع کرنے کے لیے کل رقم = _____

جب تازہ مچھلی سکھائی جاتی ہے تو وہ اپنے وزن کا $\frac{1}{3}$ روہ جاتی ہے۔

ایک مہینے میں ان کا منصوبہ 6000 کلوگرام تازہ مچھلی سکھانے کا ہے۔

ایک مہینے میں انھیں کتنی سکھائی ہوئی مچھلیاں حاصل ہوں گی؟

فلوراما — ہمیں پہلے 6 کلوگرام تازہ مچھلی کا حساب لگانا چاہیے۔



ہم نے تازہ مچھلی خریدی	15 روپے فی کلوگرام
ہم نے سوکھی مچھلی فروخت کی	70 روپے فی کلوگرام

ہم نے 6 کلوگرام تازہ مچھلی خشک کی ہے — کلوگرام سوکھی مچھلی حاصل کرنے کے لیے

$$90 = 6 \times \text{— روپے}$$

6 کلوگرام تازہ مچھلی کے لیے ہم نے قیمت ادا کی

$$\text{— روپے} = 2 \times \text{—}$$

ہمیں 2 کلوگرام سوکھی مچھلی فروخت کرنے میں حاصل ہوگا

$$90 - \text{— روپے} = \text{—}$$


اس طرح اگر ہم 6 کلوگرام تازہ مچھلی سکھائیں تو ہم کمائیں گے

$$1000 \times \text{— روپے}$$

لیکن اگر ہم 6000 کلوگرام مچھلی سکھائیں تو ہم ایک مہینے میں کمائیں گے



وہ سب اس منصوبے (اسکیم) سے بہت خوش ہیں۔ یہ گروپ منافع کما سکتا ہے اور ہر ایک عورت اپنے کام کے بدلے میں تنخواہ حاصل کر سکتی ہے۔



جھانسی — میں نے یہ دیکھا ہے کہ 6000 کلوگرام مچھلی کے لیے ہمیں ہر مہینے 1500 کلوگرام نمک کی ضرورت ہوگی! اس کی قیمت 2 روپے فی کلوگرام ہے۔

ماہانہ لاگت:

(a) نمک $1500 \times 2 =$ روپے

(b) پیکنگ اور بس کا خرچ = 3000 روپے

اس طرح مچھلیوں کو سکھانے اور فروخت کرنے کی ماہانہ لاگت

= روپے

فضیلا — یہ کاروبار بہت اچھا ہے! ہمارا حساب ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا بینک ہر مہینے 44,000 روپے کمائے گا!

* جانچ کیجیے کہ کیا آپ کا بھی یہی جواب ہوگا۔

معلوم کیجیے

مچھواروں نے جو گائے گائے ہیں وہ خوبصورت ہیں۔ اس طرح کے گائوں کے الفاظ اور ان کی طرز کے بارے میں معلوم کیجیے۔

